

**Q.7. Translate the following into English by keeping in view any figurative /idiomatic expression. (10)**

آجکل اس نفسانفسی کے دور میں ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرتا ہے۔ کوئی کسی کی پروا نہیں کرتا۔ نہ کسی کے دل میں سچا پیار ہے نہ خلوص۔ اخلاقی اقدار زوال پذیر ہیں۔ ہم نہ صرف انسانوں سے مطلب پرستی برتتے ہیں بلکہ اپنے ملک سے بھی۔ کیا ہم سب نے مل کر کبھی سوچا ہے کہ اس ملک میں جہاں کبھی پیار کے شادیانے بجاتے تھے اب دہشت گردی کا سماں ہے۔ لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر ہم پاکستان سے سچی محبت کریں اور اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم خود ہی اپنی کئی خامیاں دور کر سکتے ہیں۔ ہم سب کل کے معمار ہیں۔ ہمیں فرقہ پرستی غربت و امارت اور ادنیٰ و اعلیٰ کے فرق کو مٹا دینا چاہئے۔ ہمیں یک جان ہو کر اس ملک کا مستقبل سنوارنا ہے۔ دعا کریں کہ اس ملک و قوم کا ہر فرد متحد ہو کر اس ملک کی فکر کرنا شروع کر دے کیوں کہ زندہ ہے پاکستان تو ہم سب زندہ ہیں۔



## Translation:

In this <sup>era</sup> ~~sign~~ of selfishness, every one takes his own business. No one takes care of others. Everyone is ~~lacking~~ <sup>not</sup> in pure and kind heart. Moral ethics are ~~at~~ <sup>in</sup> descending pace. We are not only selfish to other humans but also to our country. ~~Have~~ we pondered that a long ago there were ~~scenes~~ <sup>scenes</sup> of happiness but there, ~~are~~ <sup>now</sup> threats of terrorism. ~~nothing is lost yet~~ However, nothing went wrong now. If we love Pakistan with a pure heart and look to ourselves then we can overcome many shortcomings. ~~We~~ <sup>They</sup> all, are the builders of tomorrow. ~~We~~ should eliminate the differences of rich and poor; high and low. We have to build the future of this country by remaining united. Pray to God that ~~every~~ <sup>each</sup> citizen should worry about this country and people. This is important because if this country lives long then we will also live long.

attend to pointed out mistakes  
need improvement  
6/10